

General Science 9th Class Urdu Medium Chapter 4 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	تھالی رانڈ گلینٹر جسامت میں بڑھ جاتا ہے	A. آبوٹن کی کمی سے B. فلورائیڈ کی کمی سے C. ائرن کی کمی سے D. کلیسیم کی کمی سے
2	انیوٹن کی کمی سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے	A. گلبرٹ B. نائلٹ بلنتنس C. ملیریا D. کھانسی
3	غذائی انرجی کی اکائی ہے	A. جول B. نیوٹن میٹر C. ڈائی اپٹر D. کیلو رو
4	انسولین بارمون کس گلینٹ سے خارج ہوتا ہے؟	A. ایثرینیل گلینٹ B. پیکریان C. تھائرائیڈ گلینٹ D. پچوٹری گلینٹ
5	بنیادی اعضائے تولید کو کہتے ہیں	A. شوز B. ٹیستیز C. اوریز D. گرینٹر
6	کس وٹامن کی کمی سے خون کی کمی کا مرض لاحق ہوتا ہے	A. B1 B. B2 C. B6 D. B12
7	جسم کو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتی ہے	A. بارمونز B. وٹائز C. فیش D. ایٹھی بالائز
8	وٹامن ڈی کی کمی کے باعث پیدا ہونے والی بیماری ہے	A. سکرووی B. ٹی سی C. رکنس D. اینیمیا
9	ملسٹر گلینٹ کہلاتا ہے	A. پچوٹری گلینٹ B. تھالی رانڈ گلینٹ C. ایثرینیل گلینٹ D. گرینٹر
10	غذا کے تمام اجزاء پانے جاتے ہیں	A. ہودھ میں B. بیبل میں C. گندم میں D. چاول میں
11	پروٹین کے بلندگ پلاکس کہلاتے ہیں	A. فیشی ایسٹ B. ایٹھی بالائز C. انزانم D. لیمونیو ایسٹر
12	ایک گرام فیش سے انرجی کی جو مقدار حاصل ہوتی ہے	A. 9 کلو کیلو ریز B. 18 کلو کیلو ریز C. 27 کلو کیلو ریز D. 36 کلو کیلو ریز
13	سیل کے لیے انرجی کا سب سے بڑا اور سستا ذریعہ ہے	A. پروٹینز B. کاربوبیلٹریٹ C. وٹامن D. فیش
14	غذائی جزو جس کی سب سے کم مقدار میں جسم کو ضرورت ہے	A. کاربوبیلٹریٹ B. پروٹین C. وٹامن D. فیش